

اسم الآلة

Ism AlAala

اسم الآلة: وہ مشتق اسم ہے جو اُس چیز پر بولا جائے جو کسی کام کو کرنے کے لیے آلہ (اوزار) یا ذریعہ بنایا گیا ہو۔ اسم آلہ ثلاثی مجرد کے مصدر سے مشتق ہوتا ہے اور اُس اوزار کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے فعل واقع ہوتا ہے۔

Ism AlAala is the derivative noun that occurs for something used as a tool or a means to do something. It means Ism Aala is a derivative of a Masdar of Sulaasi Mujarrad and is the tool through which the action takes place

مِفْتَاح (چابی) مَرَوْحَة (پنکھا) مَقْمَع (ہتھوڑا)

(Hammer)

(Fan)

(Key)

اسم الآلة اوزان: اسم آلہ کے زیادہ تر اوزان سماعی ہیں اور بعض قیاسی ہیں جن میں سے تین مشہور قیاسی اوزان زیادہ استعمال ہوتے ہیں جو یہ ہیں۔

Most of the Awzaan (scales) of Ism Aala are Sama'i (sanctioned by common usage) and some are Qayaasi (accordant with pattern) of which three much known scales are used mostly. They are:

- مَفْعَل - مَفْعَلَة - مَفْعَال

- اسم آلہ متعدی اور لازم دونوں طرح کے فعل سے آتا ہے مگر زیادہ متعدی سے ہی آتا ہے۔

Though Ism Aala occurs from both Laazim and Mutaddi Fa'il (intransitive and transitive verbs), it occurs mostly from Mutaddi Fa'il.

- اسم آلہ صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے مزید فیہ سے نہیں آتا۔

Ism Aala occurs only from Sulaasi Mujarrad, not from Mazeed Fihi.

- اسم آلہ کے اوزان سے تشبیہ تو قاعدہ کے مطابق (ان) کا اضافہ کر کے بنائی جاتی ہے مگر جمع ہمیشہ مکسر استعمال ہوتی ہے

Dual of Ism Aala is formed as per rule by adding ان. But its plural is always Mukassar (broken plural):

اسم الآلة لوزان

		جمع تكسير	واحد
		مَفَاعِلُ	مَفْعَلُ
دَفَع (دفع کرنا)	توپ: Cannon:	مَدَائِعُ	مَدْفَعُ
صَعِدَ (چڑھنا)	لِفْط: Elevator r:	مَصَاعِدُ	مَصْعَدُ
		مَفَاعِلُ	مَفْعَلَةٌ
	پَنکھا: Fan:	مَرُوحُ	مَرُوحَةٌ
گَنَسَ (جھاڑنا)	جھاڑو: Broom:	مَكَانِسُ	مَكْنَسَةٌ
		مَفَاعِلُ	مَفْعَالُ
فَتَحَ (کھولنا)	چابی: Key:	مَفَاتِيحُ	مَفْتَاحُ
	چراغ: Broom:	مَصَابِيحُ	مَصْبَاحُ

مَلَقَطُ (چمٹا: Tong)	مَبْرَدُ (ریتی: Filer)	مُحِيطُ (سوئی: Needle)	مَفْعَلُ
مَنْفَاخُ (پھونکنی: blower)	مَقْرَاضُ (قینچی: Scissor)	مَعْرَاجُ (سیڑھی: stairs)	مَفْعَالُ
مَنْشَفَةٌ (تولیہ: Towel)	مَلْعَقَةٌ (چمچی: Tea spoon)	مَنْظَرَةٌ (عینک: Glasses)	مَفْعَلَةٌ

﴿عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ

الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ﴾ (Jami` at-Tirmidhi 4)

Jabir bin 'Abdullah, may Allah be pleased with them, narrated that : Allah's Messenger said: "The key to Paradise is Salat, and the key to Salat is Wudu.

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ (الأنعام: 59)

اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

And with Him are the keys of the unseen; none knows them except Him.

﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ (النور: 35)

اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ ہو

The example of His light is like a niche within which is a lamp,

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ (القرعة: 6)

تو جس کے اعمال (نیک) تول میں زیادہ ہوں گے

Then as for one whose scales are heavy [with good deeds].